

پانی میں محفوظ رہنے کے اصول

1. رکیں اور سوچیں

کیا آپ کو کوئی خطرہ نظر آ رہا ہے؟



2. ساتھ رہیں

اکیلے نہ جائیں، ہمیشہ کسی دوست یا خاندان کے فرد کے ساتھ جائیں۔



مجھے اسکین کریں

3. پانی پر تیرتے رہیں

اگر آپ پانی میں گر جائیں تو پُرسکون رہیں اور زندہ رہنے کے لیے پانی پر تیرتے رہیں۔



4. 999 یا 112 پر کال کریں

اگر آپ کسی کو مشکل میں دیکھیں تو مدد کے لیے کال کریں۔

